

موڈ کے بارے میں انگلش فقرات

I'm fine.		میں ٹھیک ہوں۔
I'm ashamed of.		میں شرمندہ ہوں۔
I'm impressed.		میں متاثر ہوں۔
I'm angry.		میں غصہ میں ہوں۔
I'm infuriated.		میں غصہ سے آگ بگولہ ہوں۔
I'm short-tempered.		میں جلدی چڑ جاتا ہوں۔
I'm bored.		میں بہت بیزار ہوں۔
I'm happy.		میں خوش ہوں۔
I'm extremely happy.		میں بہت خوش ہوں۔
I'm unhappy.		میں ناخوش ہوں۔
I'm humorous.		میں مضحکہ خیز ہوں۔
I'm ominous.		میں منحوس ہوں۔
I'm romantic.		میں رومانوی ہوں۔
I'm optimistic.		میں پر امید ہوں۔
I'm pessimist.		میں مایوس ہوں۔
I'm jolly.		میں زندہ دل ہوں۔
I'm tired/of.		میں تھکا ہوا ہوں۔
I'm crazy/ mad.		میں پاگل ہوں۔
I'm hurt/wounded.		میں زخمی ہوں۔
I'm grieved.		میں اُداس ہوں۔
I'm agitated.		میں ذہنی طور پر پریشان ہوں۔
I'm nervous.		میں گھبرا ہا ہوں۔
I'm panic.		میں بہت گھبرایا ہوا ہوں۔
I'm proud of you.		مجھے تم پر فخر ہے۔
I'm quiet today.		میں آج چپ ہوں۔
I'm shocked .		میں صدمے میں ہوں۔
I'm stunned.		میں ہکا بکا ہوں۔
I'm sick of you.		میں تم سے تنگ ہوں۔
I'm confident.		میں پُراعتما ہوں۔
I'm a civilized man.		میں ایک مہذب شخص ہوں۔
I'm rude/ill-mannered.		میں بد تمیز ہوں۔
I'm excited.		میں پر جوش ہوں۔
I'm serious.		میں سنجیدہ ہوں۔
I'm surprised.		میں حیران ہوں۔
I'm fearful.		میں خوفزدہ ہوں۔
I'm awkward.		میں بے ڈھنگا ہوں۔
I'm energetic.		میں چست و چالاک ہوں۔
I'm lazy today.		میں آج سست ہوں۔
I'm quite hectic.		میں بہت مصروف ہوں۔